

Rom

Chapter 16

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην, τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὗσαν «καὶ» διάκονον
سفارش-کرتا-ہوں اور تم-کو فیبی -اس- بہن ہماری ہوتے-ہوئے بھی خادمہ
[G4921](#) [G1161](#) [G4771](#) [G5402](#) [G3588](#) [G0079](#) [G1473](#) [G1510](#) [G2532](#) [G1249](#)

τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κενχρεαῖς,
اس- کلیسیا اس- میں کنخریا
[G3588](#) [G1577](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2747](#)

ہوں کرتا سفارش کی اُس میں ہے۔ خادمہ میں جماعت کی شہر کنخریہ وہ ہے۔ رہی آپاس کے آپ فیبی بہن ہماری

2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ, ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστήτε
تاکہ اُس-کو قبول-کرو میں خداوند لائق ان- مقدسوں اور مدد-کرو
[G2443](#) [G0846](#) [G4327](#) [G1722](#) [G2962](#) [G0516](#) [G3588](#) [G0040](#) [G2532](#) [G3936](#)

αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζη πράγματι. καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις
اس-کی میں جس بھی تمہاری ضرورت-ہو معاملے اور کیونکہ وہ-خود مددگار
[G0846](#) [G1722](#) [G3739](#) [G0302](#) [G4771](#) [G5535](#) [G4229](#) [G2532](#) [G1063](#) [G0846](#) [G4368](#)

πολλῶν ἐγενήθη, καὶ ἑμοῦ αὐτοῦ.
بہتوں-کی ہوئی اور میری بھی
[G4183](#) [G1096](#) [G2532](#) [G1473](#) [G0846](#)

ہو ضرورت کی مدد کی آپ اُسے بھی میں معاملے جس چاہئے۔ کرنا کو مقدسین کہ جیسے کریں استقبال ہی ویسے کا اُس آپ کہ ہے عرض میں خداوند بلکہ
ہے-کی مدد بھی میری بلکہ کی لوگوں بہت نے اُس کیونکہ دیں، ساتھ کا اُس میں اُس

3 Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν, τοὺς συνεργοὺς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ --
سلام-کہو پرسکلہ اور اکولا ان- ساتھیوں میرے میں مسیح یسوع
[G0782](#) [G4251](#) [G2532](#) [G0207](#) [G3588](#) [G4904](#) [G1473](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#)

ہیں۔ رہے خدمت ہم میرے میں عیسیٰ مسیح جو دینا سلام میرا کو اکولا اور پرسکلہ

4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ
جنہوں-نے واسطے اس- جان میری اپنی اپنی گردن رکھ-دی جن-کا نہیں
[G3748](#) [G5228](#) [G3588](#) [G5590](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1438](#) [G5137](#) [G5294](#) [G3739](#) [G3756](#)

ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν --
میں اکیلا میں شکرگزار-ہوں بلکہ بھی ساری وہ کلیسیائیں ان- قوموں
[G1473](#) [G3441](#) [G2168](#) [G0235](#) [G2532](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3588](#) [G1484](#)

ہیں۔ مند احسان کی ان جماعتیں کی غیر یہودیوں بلکہ میں صرف نہ کھیلا۔ پر جان اپنی لئے میرے نے انہوں

5 καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον, τὸν ἀγαπητόν
اور اس- گھر-کی گھر ان-کے کلیسیا-کو سلام-کہو اپینیتس اس- پیارے
[G2532](#) [G3588](#) [G2596](#) [G3624](#) [G0846](#) [G1577](#) [G0782](#) [G1866](#) [G3588](#) [G0027](#)

μου, ὃς ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.
میرے جو ہے پہلا-پہل کا- آسپہ میں مسیح
[G1473](#) [G3739](#) [G1510](#) [G0536](#) [G3588](#) [G0773](#) [G1519](#) [G5547](#)

ہیروکار پہلا کا مسیح میں آسپہ صوبہ وہ دینا۔ سلام میرا کو اپینیتس دوست عزیز میرے دینا۔ سلام میرا بھی کو جماعت والی ہونے جمع میں گھر کے ان
تھا۔ پہل پہلا کا فصل کی علاقے اُس یعنی

6 ἀσπάσασθε Μαριάν, ἥτις πολλὰ ἔκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.
 سلام-کہو مریم جس-نے بہت محنت-کی میں تم-میں
[G0782](#) [G3137](#) [G3748](#) [G4183](#) [G2872](#) [G1519](#) [G4771](#)

ہے۔ کی مشقت محنت بڑی لئے کے آپ نے جس سلام میرا کو مریم

7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς μου καὶ, συναιχμαλώτους
 سلام-کہو اندرونیکس اور یونیاں -اُن رشتہ-داروں میرے اور قیدیوں
[G0782](#) [G0408](#) [G2532](#) [G2458](#) [G3588](#) [G4773](#) [G1473](#) [G2532](#) [G4869](#)

μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ
 میرے جو ہیں نامور میں -اُن رسولوں جو بھی پہلے مجھ-سے
[G1473](#) [G3748](#) [G1510](#) [G1978](#) [G1722](#) [G3588](#) [G0652](#) [G3739](#) [G2532](#) [G4253](#) [G1473](#)

γέγοναν ἐν Χριστῷ.
 ہوئے میں مسیح
[G1096](#) [G1722](#) [G5547](#)

مجھ وہ اور ہیں، رکھتے حیثیت نمایاں وہ میں رسولوں ہے۔ گزارا وقت ساتھ میرے میں جیل اور ہیں وطن ہم میرے وہ سلام۔ میرا کو یونہی اور اندرونیکس تھے۔ لئے ہو پیچھے کے مسیح پہلے سے

8 ἀσπάσασθε Ἀμφιλιᾶτον, τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ.
 سلام-کہو امپیلیاتس -اُس پیارے میرے میں خداوند
[G0782](#) [G0291](#) [G3588](#) [G0027](#) [G1473](#) [G1722](#) [G2962](#)

ہے۔ عزیز مجھے میں خداوند وہ سلام۔ کو امپیلیاتس

9 ἀσπάσασθε Οὐρβανόν, τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν
 سلام-کہو اوربانس -اُس ساتھی ہمارے میں مسیح اور استاخس -اُس
[G0782](#) [G3773](#) [G3588](#) [G4904](#) [G1473](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2532](#) [G4720](#) [G3588](#)

ἀγαπητόν μου.
 پیارے میرے
[G0027](#) [G1473](#)

بھی۔ کو استخس دوست عزیز میرے طرح اسی اور سلام کو اربانس خدمت ہم ہمارے میں مسیح

10 ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν, τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
 سلام-کہو اپلیس -اُس آزمودہ میں مسیح سلام-کہو -اُن سے -کے
[G0782](#) [G0559](#) [G3588](#) [G1384](#) [G1722](#) [G5547](#) [G0782](#) [G3588](#) [G1537](#) [G3588](#)

Ἀριστοβούλου.
 ارستبولس
[G0711](#)

سلام۔ کو والوں گھر کے ارستبولس ہے۔ گیا آزما یا کو وفاداری ساتھ کے مسیح کی جس سلام کو اپیلیس

11 ἀσπάσασθε Ἡρωδίωνα, τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
 سلام-کہو ہیروڈیون -اُس رشتہ-دار میرے سلام-کہو -اُن سے -کے
[G0782](#) [G2267](#) [G3588](#) [G4773](#) [G1473](#) [G0782](#) [G3588](#) [G1537](#) [G3588](#)

Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ.
 نرکسس -اُن ہوتے-ہوئے میں خداوند
[G3488](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1722](#) [G2962](#)

ہیں۔ لئے ہو پیچھے کے مسیح جو بھی کو والوں گھر اُن کے نرکسس طرح اسی اور سلام کو ہیروڈیون وطن ہم میرے

- 12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν, τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ.
 سلام-کہو [G0782](#) تروفینا [G5170](#) اور [G2532](#) تروفوسا [G5173](#) -آن [G3588](#) محنت-کرنے-والیوں [G2872](#) میں [G1722](#) خداوند [G2962](#)
- ἀσπάσασθε Περίδα, τὴν ἀγαπητὴν, ἣτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ.
 سلام-کہو [G0782](#) پرسیس [G4069](#) -اُس [G3588](#) پیاری [G0027](#) جس-نے [G3748](#) بہت [G4183](#) محنت-کی [G2872](#) میں [G1722](#) خداوند [G2962](#)

بڑی میں خدمت کی خداوند نے جس سلام کو پرسس بہن عزیز میری ہیں۔ کرتی مشقت محنت میں خدمت کی خداوند جو سلام کو تروفوسہ اور تروفینہ ہے۔ کی مشقت محنت

- 13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον, τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
 سلام-کہو [G0782](#) روفس [G4504](#) -اُس [G3588](#) چنے-ہوئے [G1588](#) میں [G1722](#) خداوند [G2962](#) اور [G2532](#) -اُس [G3588](#) ماں [G3384](#) اور [G0846](#) اُس-کی [G2532](#)
- ἐμοῦ.
 میری [G1473](#)

ہے۔ بھی ماں میری جو بھی کو ماں کی اُس طرح اسی اور سلام کو روفس بھائی ہوئے چنے کے خداوند ہمارے

- 14 ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν
 سلام-کہو [G0782](#) اسنکرتس [G0799](#) فلیگون [G5393](#) برمیس [G2060](#) پتروباس [G3969](#) برماس [G2057](#) اور [G2532](#) -اُن [G3588](#) ساتھ [G4862](#)
- αὐτοῖς ἀδελφούς,
 اُن-کے [G0846](#) بھائیوں-کو [G0080](#)

دینا۔ سلام میرا کو بھائیوں ساتھ کے اُن اور برماس پتروباس، برمیس، فلگون، اسنکرتس،

- 15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ
 سلام-کہو [G0782](#) فلولگس [G5378](#) اور [G2532](#) یولیا [G2456](#) اور [G3517](#) نیریوس [G2532](#) -اُس [G3588](#) بہن [G0079](#) اور [G0846](#) اُس-کی [G2532](#)
- Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντα ἁγίους.
 اولمپاس [G3652](#) اور [G2532](#) -اُن [G3588](#) ساتھ [G4862](#) اُن-کے [G0846](#) سب [G3956](#) مقدسوں-کو [G0040](#)

سلام۔ کو مُقدّسین تمام ساتھ کے اُن اور المپاس بہن، کی اُس اور نیریوس یولیا، اور فللگس

- 16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς, αἱ ἐκκλησίαι
 سلام-کہو [G0782](#) ایک-دوسرے-کو [G0240](#) میں [G1722](#) ہوسے [G5370](#) پاک [G0040](#) سلام-کہتی-ہیں [G0782](#) تم-کو [G4771](#) -وہ [G3588](#) کلیسیائیں [G1577](#)
- πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.
 ساری [G3956](#) کے- [G3588](#) مسیح [G5547](#)

سلام۔ کو آپ سے طرف کی جماعتوں تمام کی مسیح کریں۔ سلام کر دے ہوسے مُقدّس کو دوسرے ایک

17 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ
 درخواست-کرتا-ہوں اور تم-سے بہائیو نظر-رکھو ان-پر جو-تفرقے اور وہ-
[G3870](#) [G1161](#) [G4771](#) [G0080](#) [G4648](#) [G3588](#) [G3588](#) [G1370](#) [G2532](#) [G3588](#)

σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιῶντας; καὶ ἐκκλίνετε
 ٹھوکریں خلاف اُس-تعلیم جو تم-نے سیکھی ڈالے-والوں-کو اور بچو
[G4625](#) [G3844](#) [G3588](#) [G1322](#) [G3739](#) [G4771](#) [G3129](#) [G4160](#) [G2532](#) [G1578](#)

ἀπ' αὐτῶν.

ان-سے سے
[G0575](#) [G0846](#)

بے۔ گئی دی کو آپ جو بے خلاف کے تعلیم اُس یہ ہیں۔ بنتے باعث کا ٹھوک اور بازی پارٹی جو رہیں خبردار سے اُن آپ کہ ہوں کرتا تاکید کو آپ میں بہائیو،
 کریں کنارہ سے اُن

18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι, τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ, οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τῇ
 وہ-کیونکہ ایسے کے-خداوند ہمارے مسیح نہیں بندگی-کرتے بلکہ کے-
[G3588](#) [G1063](#) [G5108](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G5547](#) [G3756](#) [G1398](#) [G0235](#) [G3588](#)

ἐαυτῶν κοιλία; καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἑξαπατῶσιν τὰς
 اپنے کوئلے اور ذریعے کے-میٹھی-باتوں اور خوشامد اور دھوکا-دیتے-ہیں ان-
[G1438](#) [G2836](#) [G2532](#) [G1223](#) [G3588](#) [G5542](#) [G2532](#) [G2129](#) [G1818](#) [G3588](#)

καρδίας τῶν ἀκάκων.

دلوں-کو ان-سادہ-لوگوں
[G2588](#) [G3588](#) [G0172](#)

دلوں کے لوگوں لوح سادہ سے باتوں چپڑی چکنی اور میٹھی اپنی وہ کی۔ پیٹ اپنے بلکہ رہے کر نہیں خدمت کی مسیح خداوند ہمارے لوگ ایسے کیونکہ
 ہیں۔ دیتے دھوکا کو

19 ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοή, εἰς πάντας ἀφίκετο. ἐφ' ὑμῖν, οὖν χαίρω,
 وہ-کیونکہ تمہاری فرمانبرداری میں سب-تک پہنچی پر تم پس خوش-ہوں
[G3588](#) [G1063](#) [G4771](#) [G5218](#) [G1519](#) [G3956](#) [G0864](#) [G1909](#) [G4771](#) [G3767](#) [G5463](#)

θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοῦς (μὲν) εἶναι, εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίου δὲ
 چاہتا-ہوں اور تم-کو دانا (میں) ایک-طرف ہونا میں اس-نیکی سادہ اور
[G2309](#) [G1161](#) [G4771](#) [G4680](#) [G3303](#) [G1510](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0018](#) [G0185](#) [G1161](#)

εἰς τὸ κακόν.

میں اس-بدی
[G1519](#) [G3588](#) [G2556](#)

سے لحاظ کے کرنے کام اچھا آپ کہ ہوں چاہتا میں لیکن ہوں۔ خوش میں بارے کے آپ میں کر دیکھ یہ ہے۔ گئی پہنچ تک سب خبر کی برداری فرماں کی آپ
 ہوں۔ بے قصور سے لحاظ کے کرنے کام بُرا اور مند دانش

20 ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας
 وہ-خدا کا-سلامتی کچلے-گا اس-شیطان-کو نیچے ان-پاؤں
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1515](#) [G4937](#) [G3588](#) [G4567](#) [G5259](#) [G3588](#) [G4228](#)

ὑμῶν ἐν τάχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ «Χριστοῦ» μεθ' ὑμῶν.
 تمہارے میں جلد وہ-فضل کے-خداوند ہمارے یسوع مسیح ساتھ تمہارے
[G4771](#) [G1722](#) [G5034](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3326](#) [G4771](#)

ہو۔ ساتھ کے آپ فضل کا عیسیٰ خداوند ہمارے گا۔ ڈالے کچلوا تلے پاؤں کے آپ کو ابلیس ہی جلد خدا کا سلامتی

21 Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος, ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος, καὶ Ἰάσων,
 یاسون اور لوکیوس اور میرا ساتھی - وہ تیمتھیس تم-کو سلام-کہتا-ہے
[G0782](#) [G4771](#) [G5095](#) [G3588](#) [G4904](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3066](#) [G2532](#) [G2394](#)

καὶ Σωσίπατρος, οἱ συγγενεῖς μου.
 اور سوسیپتروس میرے رشتہ-دار - وہ
[G2532](#) [G4989](#) [G3588](#) [G4773](#) [G1473](#)

سوسیپتروس اور یاسون لوکیوس، وطن ہم میرے طرح اسی اور ہے، دیتا سلام کو آپ تیمتھیس خدمت ہم میرا

22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ, Τέρτιος, ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν, ἐν Κυρίῳ.
 خداوند میں خط - اس لکھے-والا - وہ ترتیوس میں سلام-کہتا-ہوں
[G0782](#) [G4771](#) [G1473](#) [G5060](#) [G3588](#) [G1125](#) [G3588](#) [G1992](#) [G1722](#) [G2962](#)

سلام کو آپ میں خداوند بھی سے طرف میری ہوں۔ کاتب کا خط اس ترتیس میں،

23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος, ὁ ξένος μου, καὶ ὄλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται
 سلام-کہتا-ہے گائیس میرا میزبان - وہ گائیس تم-کو سلام-کہتا-ہے
[G0782](#) [G4771](#) [G1050](#) [G3588](#) [G3581](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3650](#) [G3588](#) [G1577](#) [G0782](#)

ὑμᾶς Ἔραστος, ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτος, ὁ ἀδελφός.
 ارستس تم-کو بھائی - وہ کوارٹس اور شہر - کا خزانچی - وہ
[G4771](#) [G2037](#) [G3588](#) [G3623](#) [G3588](#) [G4172](#) [G2532](#) [G2890](#) [G3588](#) [G0080](#)

کہتے سلام کو آپ بھی کوارٹس بھائی ہمارے اور ارستس خزانچی کے شہر ہیں۔ رہے مہمان کے اُس جماعت پوری اور میں سلام کو آپ سے طرف کی گئیں
 ہیں۔

24 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.
 آمین] تمہارے سب ساتھ مسیح یسوع ہمارے خداوند کے - فضل - وہ
[G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3326](#) [G3956](#) [G4771](#) [G0281](#)

رہے۔] ہوتا ساتھ کے سب آپ فضل کا عیسیٰ خداوند ہمارے

25 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, καὶ τὸ
 اور میری خوشخبری - اس مطابق مضبوط-کرنے-والے تم-کو قادر اور - اُس
[G3588](#) [G1161](#) [G1410](#) [G4771](#) [G4741](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2098](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3588](#)

κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου, χρόνους αἰωνίους
 منادی یسوع مسیح-کی مطابق مکاشفہ - بھید-کے ازلی زمانوں
[G2782](#) [G2424](#) [G5547](#) [G2596](#) [G0602](#) [G3466](#) [G5550](#) [G0166](#)

σεσιγημένον,

چھپے-ہوئے
[G4601](#)

کے بھید اُس اور ہوں سناتا میں جو سے خبری خوش اُس میں بارے کے مسیح عیسیٰ کیونکہ ہے، قادر پر کرنے مضبوط کو آپ جو ہو، تمجید کی اللہ
 ہے۔ سکتا رکھ قائم کو آپ وہ رہا پوشیدہ سے ازل جو سے انکشاف

26 φανερωθέντος δὲ νῦν, διὰ τε γραφῶν προφητικῶν, κατ' ἐπιταγὴν τοῦ
 ظاہر-کیے-گئے اور اب ذریعے بھی صحیفوں نبوی مطابق حکم - کے
[G5319](#) [G1161](#) [G3568](#) [G1223](#) [G5037](#) [G1124](#) [G4397](#) [G2596](#) [G2003](#) [G3588](#)

αἰωνίου Θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως, εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος.
 ازلی خدا میں فرمانبرداری ایمان-کی میں سب - ان قوموں-کو جتائے-گئے
[G0166](#) [G2316](#) [G1519](#) [G5218](#) [G4102](#) [G1519](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#) [G1107](#)

کے اللہ کر لا ایمان سب تاکہ ہے گئی ہو معلوم کو قوموں تمام پر حکم کے خدا ابدی اور ہے گئی کی ظاہر سے صحیفوں کے نبیوں حقیقت کی بھید اِس اب
 جائیں۔ ہو تابع

27 μόνω σοφῶ Θεῶ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας
اکیلے حکیم خدا-کو ذریعے یسوع مسیح-کے جس-کو وہ جلال میں -ان ابدوں
[G3441](#) [G4680](#) [G2316](#) [G1223](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3739](#) [G3588](#) [G1391](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0165](#)

□τῶν αἰώνων□ ἀμήν.
کے- ابدوں آمین
[G3588](#) [G0165](#) [G0281](#)

آمین۔ رہے! ہوتا جلال تک ابد سے وسیلے کے مسیح عیسیٰ کا اسی ہے۔ مند دانش واحد جو ہو تمجید کی اللہ